

وزیر کی جانب سے پناہ کی درخواست دائر کرنے کی اجازت ملنے کے لئے انتظار کرنے کے دوران میں کیا کرسکتا ہوں؟

کیا آپ ایسے پناہ گزین ہیں جو کشتی کے ذریعے آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک پناہ کے لئے درخواست دائر نہیں کی؟ اگر اس کا جواب ہاں ہے تو درج ذیل میں 6 چیزیں ایسی ہیں جو آپ ابھی وزیر کی جانب سے پناہ کی درخواست دائر کرنے کی اجازت ملنے کے لئے انتظار کرنے کے دوران کرسکتے ہیں۔

1. اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ ہمیں اپنے رابطے کی تازہ ترین تفصیلات (پتہ اور فون نمبر) سے باخبر رکھیں

• 1300 728 662 پر کال کریں

• یا فارم 929 مکمل کریں، جو کہ یہاں دستیاب ہے: <http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/929.pdf>

• نوٹ: ڈیپارٹمنٹ اس بات کی تصدیق نہیں کرتا کہ اسے فارم موصول ہو گیا ہے

2. معلومات تک رسائی (یا Freedom of Information) کی درخواست دیں جس میں اپنی فائل کی نقل طلب کریں

• فارم 424A مکمل کریں، جو کہ یہاں دستیاب ہے: <http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/424a.pdf>

○ یہ مفت ہے

○ فارم کے ہمراہ آپ کی شناخت کا ثبوت منسلک ہونا ضروری ہے (یہ ثبوت آپ کا ایمی کارڈ یا Immi Card بھی ہوسکتا ہے)

○ اپنی مکمل امیگریشن کی فائل کی نقل مانگیں بشمول:

▪ اندرونی میموز اور مراسلے

▪ انٹرویوز کے ریکارڈ شدہ گفتگو اور تحریری نوٹس

▪ اسکریننگ ان یا آؤٹ کے فیصلوں کے ریکارڈ

○ آپ فارم کو بذریعہ ڈاک یا ای میل (foi.vic@immi.gov.au) بھیج سکتے ہیں

○ دستاویزات ملنے میں عموماً ایک ماہ کا عرصہ لگتا ہے

3. پروٹیکشن ویزے کی درخواست کے فارم کا ایک ڈرافٹ یعنی مسودہ تیار کریں

• پروٹیکشن کے ویزے کی درخواست کے فارم 866 کا ایک ڈرافٹ یا مسودہ تیار کریں۔ فارم یہاں پر دستیاب ہے:

<http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/866.pdf>

○ یہ اہم ہے کہ آپ ہر سوال کا جواب دیں۔ اگر آپ کو جواب معلوم نہیں تو 'I don't know' یعنی 'مجھے معلوم نہیں' لکھیں

○ یہ اہم ہے کہ آپ کسی بھی معلومات کے بارے میں قیاس آرائی نہ کریں

○ ہم مشورہ دیتے ہیں کہ اپنا فارم جمع کروانے سے پہلے مائیگریشن کے بارے میں تجویز حاصل کرلیں۔

4. 'دعوی جات کا بیان' یا 'Statement of Claims' کا ایک ڈرافٹ یعنی مسودہ تیار کریں

• 'دعوی جات کا بیان' یا 'Statement of Claims' آپ کی کہانی اور آپ کے گھر نہ جاسکنے کی وجوہات کی تحریری نقل ہے

• RACS کی ویب سائٹ پر ایک کارآمد فیکٹ شیٹ اس پتے پر دستیاب ہے: <http://www.racs.org.au/factsheets>

• ہم مشورہ دیتے ہیں کہ اپنا دعوی جات کا بیان جمع کروانے سے پہلے مائیگریشن کے بارے میں تجویز حاصل کرلیں۔

5. ایسی دستاویزات اکٹھی کریں جو آپ کی کہانی کی تائید کرتی ہوں

• جہاں ممکن ہو، شناختی دستاویزات سمیت ایسی دستاویزات اکٹھی کریں جو آپ کی کہانی کی تائید کرتی ہوں

• ان میں یہ شامل ہوسکتی ہیں

○ خطوط

○ تصاویر

○ طبی یا کاؤنسلنگ کی رپورٹیں

○ آپ کی کہانی سے متعلقہ واقعات

○ کے بارے میں اخباری آرٹیکلز

○ ممبر شپ کارڈز

• اگر دستاویزات انگریزی میں نہیں ہیں تو ان کا ترجمہ کروانے کی ضرورت ہوگی

• ترجمہ کرنے کی دو خدمات یا سروسز میں <http://www.vits.com.au> اور <http://www.allgraduates.com.au> شامل ہیں

• ہم مشورہ دیتے ہیں کہ اپنی تائیدی دستاویزات جمع کروانے سے پہلے مائیگریشن کے بارے میں تجویز حاصل کرلیں۔

6. ایک وکیل تلاش کرنے کے بارے میں سوچیں جو آپ کی مدد کرے

• عموماً حکومتی رقم سے فراہم کردہ قانونی امداد (government funded legal assistance - IAAAS) دستیاب نہیں ہوگی

• ہو سکتا ہے کہ تنہا کم سن افراد کے لئے حکومتی رقم سے فراہم کردہ قانونی امداد دستیاب ہو۔